



## Habib Rice Products Ltd.

World's Oldest and Most Diversified Producers of Organic & Non GM Conventional Rice Based Sweeteners, Polyols and Protein Concentrates.

Ref No.: HRPL/2023/137

June 06, 2023

**The General Manager**  
**Pakistan Stock Exchange Limited**  
Stock Exchange Building,  
Stock Exchange Road,  
Karachi.

**Sub: Notice of Extra Ordinary General Meeting**

Dear Sir,


Enclosed find a copy of the Notice of Extra Ordinary General Meeting to be held on Monday, June 26, 2023 at 11:00 a.m. at The Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) Auditorium Hall, D-31/8, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi.

We have attached herewith the Press clipping published in Business Recorder English and Daily Express Urdu on June 26, 2023 in respect of the Extra Ordinary General Meeting of Habib Rice Products Ltd. for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Thanking you,

Yours Faithfully,

**For: Habib Rice Products Ltd.**



  
**Jamshed Ali Khan**  
Chief Financial Officer

  
**Ali Asghar Rajani**  
Company Secretary

Encl: As Stated Above

C.C. to:

1. Securities & Exchange Commission of Pakistan, Islamabad.
2. Head of Operations, Central Depository Co. of Pakistan Ltd., Karachi.
3. Share Registrar: CDC Share Registrar Services Ltd., Karachi.



fully automated production line for buns and bread for which the basic infrastructure was installed in 2020. Higher finance cost diluted the bottom-line growth which posted a 14 percent year-on-year rise to clock in at Rs.127.80 million in 2020 with an NP margin of 4.6 percent. EPS also climbed up to Rs.2.49 in 2020.

Among all the years under consideration, BNL posted the highest topline growth of 28 percent year-on-year in 2021. The gradual resumption of economic activity led to an upsurge in demand. BNL produced 12000 metric tons of bakery items and 765 metric tons of snacks in 2021 to meet the demand. During the year, the company completed the installation of its dully automated bun line and started working on fully automated cake line and continuous fryers for its snack division. The cost of sales grew by 30 percent year-on-year in 2021. While gross profit climbed up by 23 percent year-on-year in 2021, GP margin inched down to 26.4 percent. Administrative and selling expenses grew immensely by 22 percent and 32 percent respectively in 2021. As of December 2021, the company had a total of 751 employees which greatly drove the salaries expense up. BNL also upped its advertising and sales promotion during the year to achieve higher market penetration besides providing commission and other sales incentives to pitch sales of BNL products. Other expense grew by 32 percent year-on-year due to higher provisioning for WWF and WPPF on account on increased profitability. Other income posted a massive 269 percent year-on-year growth on the back of gain on sale of fixed assets coupled with amortization of deferred grant. Operating profit magnified by 25 percent year-on-year in 2021, however, OP margin slightly reduced to 9.6 percent. Finance cost provided some breather as it slid by 10 percent year-on-year in 2021 due to monetary easing. This is despite the fact that BNL's short-term and long-term borrowings have considerably increased during the year to meet its working capital requirements and support its expansion plans respectively. Net profit registered a stunning 39 percent year-on-

percent. EPS also plummeted to Rs.2.08 in 2022.

**Recent Performance (9MFY23)**

During 9MFY23, BNL's topline grew by 26 percent year-on-year in 9MFY23 due to increase in demand as well as prices. Cost of sales grew by 25 percent year-on-year in 9MFY23 due to rising food inflation. Upward revision in prices of BNL's products helped in achieving a GP margin of 23 percent during 9MFY23 versus 22 percent during 9MFY22. Gross profit also rose by 29 percent year-on-year during 9MFY23. BNL cut down on its administrative

expense rose by 114 percent year-on-year in 9MFY23. The detailed financial statements are not yet available to comment on the underlying reasons for the rise in other expense. BNL didn't make any other income during 9MFY23. Operating profit grew by 33 percent year-on-year in 9MFY23 and OP margin also slightly ticked up to 6.7 percent versus 6.3 percent during the same period last year. Finance cost severely rose by 66 percent year-on-year in 9MFY23 due to record high discount rate. While BNL put brakes on its long-term borrowings, short-term borrowings show no breather owing to

With food inflation showing no breather, the cost of BNL is sure to hike. Furthermore, high distribution cost and finance cost owing to unabated fuel prices and discount rates respectively will put further pressure on its bottomline and margins. With steady demand growth and periodic price revisions, the company can, to some extent, pass on the onus to the final consumers and keep its bottomline in the profit-zone, yet, its margins are very much expected to take the hit in the coming quarter.

*All information and data used are from reliable source(s) and subjected to extensive research after diligent and reasonable efforts to determine the soundness of the source(s). This analysis is not for the benefit of or discredit to any person, scrip or tradable instrument. The content(s) of this analysis shall not be construed as an advice or recommendation to trade. No relationship of client will be created between Business Recorder and user of this information. Professional advice must be taken by the reader before making investment/trading decisions. BR disclaims any liability for investment(s) made or liability accrued on basis of this analysis. The content(s) including all opinion(s), statement(s) and information are subject to change without prior notice and/or intimation.*



## Habib Rice Products Ltd.

2nd Floor, UBL Building, I.I.Chundrigar Road, Karachi-74000, Pakistan Tel: +92-21-32411887 Fax: +92-21-32414581

# NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting of the Shareholders of Habib Rice Products Ltd. will be held on Monday, June 26, 2023 at 11:00 a.m. at The Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) Auditorium Hall, D-31/8, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi to transact the following business:

### SPECIAL BUSINESS

- To confirm the minutes of the Extra Ordinary General Meeting held on Monday, June 05, 2023.
  - To consider and, if thought fit, pass the following resolutions as Special Resolutions with or without modification:
    - Resolved** that the approval of the members of Habib Rice Products Ltd. (the "Company") be and is hereby accorded to increase authorized share capital of the Company from Rs.300,000,000/- (Rupees Three Hundred Million Only) divided into 60,000,000 shares of Rs.5/- each to Rs.1,000,000,000/- (Rupees One Billion Only) divided into 200,000,000 shares of Rs.5/- each.
    - Further Resolved** that, in consequence of the said increase in the authorized share capital of the Company, the existing Clause-V of the Memorandum of Association and Articles 5 of the Articles of Association of the Company be and are hereby amended accordingly, to read as follow:
 

**Clause-V of the Memorandum of Association**

The Authorized Share Capital of the Company is Rs.1,000,000,000/- (Rupees One Billion Only) divided into 200,000,000 (Two Hundred Million Only) ordinary shares of Rs.5/- (Rupees Five Only) each, with the rights, privileges and conditions attaching thereto as are provided by the Regulations of the Company for the time being. The Company shall have the power to vary, modify or abrogate any such rights, privileges or conditions, in such manner as may be permitted by the Companies Act, 2017 and to increase, reduce and/or reorganize the capital and to consolidate the shares.

**Articles 5 of the Articles of Association**

The Authorized Share Capital of the Company is Rs.1,000,000,000/- (Rupees One Billion Only) divided into 200,000,000 (Two Hundred Million Only) ordinary shares of Rs.5/- (Rupees Five Only) each.
  - Further Resolved** that under the provisions of the Companies Act, 2017 read with the Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020, the board be authorized to issue Bonus Shares out of the unappropriated reserves of the Company to the Members in proportion to their existing shareholding ratio in the Company as on June 16, 2023, as proposed/recommended by the Board.
  - The bonus shares shall be subject to the provisions of the Act, Articles of Association of the company and (Further Issue of Shares) Regulations, 2020
  - Further resolved** that the resolution of the board shall be communicated to the Commission on the same day as the passing of this resolution along with the prescribed Form in respect of allotment of bonus shares to ensure compliance with the aforementioned provisions of the Law.
  - Further Resolved** that Mr.Gaffar A.Habib, Chairman and Mr.Owais G.Habib, Chief Executive Officer of the Company be and are hereby singly/jointly authorized to do all acts, deeds, things and to take any or all necessary actions to complete all legal formalities and file all necessary documents in this regard as they think fit on behalf of the Company.
- To transact any other business as may be placed before the meeting with the permission of the Chairman.

A Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017, pertaining to the above mentioned special business is being sent to the members along with the notice.

Karachi:  
June 06, 2023

By order of the board  
**ALI ASGHAR RAJANI**  
Company Secretary

stunning 39 percent year-on-year growth in 2021 to clock in at Rs.177.95 million with an NP margin of 5 percent. EPS clocked in at Rs.2.66 in 2021 which signifies a growth of 7 percent as the company issued 30 percent bonus shares during the year which increased its share capital. The company didn't pay cash dividend in 2021 keeping in view its investment plans and the associated funds requirements.

2022 brought in another 25 percent year-on-year growth in BNL's topline. However, during 2022, the topline growth has a great effect of upward revision in prices to counterbalance the effect of rising input cost due to domestic floods as well as Russia-Ukraine crisis. The production slightly inched up to 12400 metric tons in bakery division and 925 metric tons in snacks division in 2022. The cost of sales went up by 32 percent year-on-year. Gross profit grew by 5 percent year-on-year in 2022, however, GP margin drastically fell to 22 percent – the lowest among all the years under consideration. The company kept a check on its administrative expenses which grew by a mere 5 percent year-on-year in 2022 despite unprecedented inflation. While salaries expense grew substantially, the company contained directors' remuneration during 2022. Distribution expense grew up by 24 percent year-on-year in 2022 due to sharp increase in fuel prices while other expense slumped by 34 percent year-on-year in 2022 due to lesser WWF and WPPF. Other income also declined by 55 percent year-on-year in 2022. Gain on sale of fixed assets was the main component of BNL's other income in the past years; however, the company didn't sell any of its fixed assets during 2022. Operating profit contracted by 19 percent year-on-year in 2022 and OP margin also stood at its five-year low of 6.2 percent.

## NOTES

### A. General

- All members are entitled to attend and vote at EOGM
- The share transfer books of the Company will remain closed from June 19, 2023 to June 26, 2023 (both days inclusive). Transfers received in order at the Company's Registered Office or M/s.CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi (the "Shares Registrar") by the close of business on June 16, 2023 will be treated in time and may be considered eligible to attend EOGM.
- Members are requested to promptly submit to the shares' Registrar / Company / their Participant (if applicable):
  - Any change in their contact details / address:
  - IBAN under Section 242 of the Companies Act, 2017 (the "Act") through Mandate Form available at <https://www.hrpl-financialstatement.com>
  - Valid Tax Exemption Certificate; and
  - Form CZ-50 (Non-deduction of Zakat).
- The General Meeting is being conducted as per guideline circulated by SECP following arrangements have also been made by the Company to facilitate the maximum participation of the shareholders in the EOGM through video link facility, either in-person or through appointed proxies. Interested members may contact at [a.a.rajani@habibriceproducts.com](mailto:a.a.rajani@habibriceproducts.com) with their identification/comments at least two (02) days before the EOGM.

### B. For Attending the EOGM and Identification

- In case of individuals:** original Computerized National Identity Card or Passport be shown for Identification.
- In case of a Corporate Entity:** The Board Resolution/Power of Attorney with specimen signature of the representative be shown for identification.

### C. For appointing the Proxies

Members entitled to attend and vote of the EOGM may appoint a proxy/nominee in writing to attend EOGM and vote of their behalf. Duly completed proxy form/Authorization must be deposited with the Company at its Registered office not later than 48 hours before the schedule EOGM time. Proxy Form/Authorization must be complete/valid and accompanied with following:

- Witness by two persons.
- Attested copies of CNIC or passport of Member and proxy.

### D. Voting

Members may exercise their right to vote by means of Postal Ballot i.e. by post or through electronic mode subject to requirements of Section 143-145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

### STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This statement is annexed to the Notice of the Extra Ordinary General Meeting of Habib Rice Products Ltd. to be held on June 26, 2023, at which certain special business is to be transacted. The purpose of this statement is to set forth the material facts concerning such special business mentioned as Item No.2 of the agenda.

The current authorized share capital of the Company is Rs.300,000,000/- (Rupees Three Hundred Million Only) divided into 60,000,000 (Sixty Million Only) ordinary shares of Rs.5/- each.

In order to cater for increase in paid up share capital, the Board of Directors has recommended that the authorized capital be increased from Rs.300,000,000/- to Rs.1,000,000,000/- by certain of additional 140,000,000 ordinary shares of Rs.5/- each. The proposed increase in the authorized share capital of the Company will also necessitate amendments in Clause V of the Memorandum of Association and Article 5 of the Articles of Association of the Company to reflect the increase in authorized share capital of the Company. For this purpose, a special resolution is required to be considered and approved in this meeting. The Directors have no special interest in the proposed increase of authorized share capital, except to the extent of their shareholding.

For any query/clarification/information, the shareholder may contact the Company and/or the Share Registrar at the following addresses:

#### Company Address:

#### Habib Rice Products Ltd.

2nd Floor, UBL Building, I.I. Chundrigar Road, Karachi  
Phone: (+92-21) 32411887, Fax: (+92-21) 32414581  
E-mail: [hal-adm@hotmail.com](mailto:hal-adm@hotmail.com)

#### Share Registrar Address:

#### M/s. CDC Share Registrar Services Limited

CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S.,  
Main Shahrah-e-Faisal, Karachi. Phone: 0800-23275  
Fax: (+92-21) 34326053, Email: [info@cdcsrsl.com](mailto:info@cdcsrsl.com)

7:30	عصر
4:18	عصر
12:33	ظہر
7:32	مغرب

قرب 2 ڈاکوؤں سے اسے کے زور پر 26 روز صدر سیکرٹری چنگ (باقی صفحہ 5 نمبر 46)

**کراچی کی آلودگی میں پلاسٹک کا بڑا کردار ہے**  
ماہرین ماحولیات

ماحولیاتی تبدیلی اور معدوم ہوتے وسائل نے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے جامعہ کراچی میں سیمینار سے ڈاکٹر معظم خان، پروفیسر خالد عراقی و دیگر کا خطاب

کراچی (انسٹاٹو رپورٹرز) ڈائریکٹر انسٹی ٹیوٹ آف انوائرنمنٹل اینڈ سٹیٹسٹیکل سائنسز جامعہ کراچی پروفیسر ڈاکٹر معظم علی خان نے کہا کہ 1950 سے دنیا بھر میں 8.3

ڈاکٹر ماہر شاہ سید خوشنویس کیس جے ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری

کراچی (کوٹ رپورٹرز) سٹی کوٹ میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ایڈیشنل جج جنوبی نے ڈاکٹر ماہر شاہ کی سید خوشنویس کے مقدمے کی سماعت ہوئی بلاتمنا اور مدعا عدالت سے غیر حاضر ہے، عدالت نے دونوں ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے، عدالت نے مدعی مقدمہ کی غیر حاضری پر بھی وارنٹ جاری کیے، مدعی مقدمہ عدالتی حکم کے باوجود پیش نہ ہو سکے عدالت نے سماعت 17 جون تک ملتوی کر دی۔

جزل ادارہ ترقیات کراچی سید محمد علی شاہ نے کہا کہ ہمیں مستقبل میں ایسے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس سے آئندہ آنے والی نسلیں استناد حاصل کر سکیں شہریوں کو بنیادی صحت کی فراہمی ممکن بنانے کے لیے ادارہ ترقیات کراچی ایسے وسائل کا مجموعہ استعمال کر رہا ہے شہر بھر میں سندھ حکومت کے تعاون سے ترقیاتی کام جاری ہیں۔

**”کراچی کا درجہ حرارت اہل سے 7 ڈگری زیادہ محسوس ہوتا ہے“**  
آغاخان اسپتال میں یوم ماحولیات پر تعیش، ڈاکٹر محمد واسع و دیگر کا خطاب

کراچی (انسٹاٹو رپورٹرز) ماحولیاتی آلودگی کے نتیجے میں انسانی صحت پر مضر اثر ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں غیر مستحکم امراض نسلی تان کی تکثیر ہو رہی ہیں، بلڈ پریشر، شوگر، فالج اور دل کی بیماریوں کی شرح میں اضافے کی وجوہات میں سے بڑی وجہ ماحولیاتی آلودگی بھی ہے عالمی اداروں کے مطابق پاکستان کے بڑے شہروں میں 20 آلودہ شہروں میں شامل ہیں، ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں جہاں گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے وہیں سیلابی بارشوں کا سامنا ہے اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں کراچی کے

”الخدمت آف آرٹن کیمر پروگرام“ کے تحت آگاہی واک کا اہتمام

کراچی (پ ر) الخدمت آف آرٹن کیمر پروگرام کے تحت ”عالمی یوم ماحولیات“ پروگرام کا اہتمام کیا گیا، واک کو رنگی نمبر 5 اور اورنگی ماڈل پارکس میں منعقد کی گئی جس میں (باقی صفحہ 5 نمبر 47)



جامعہ کراچی میں ماحولیاتی آلودگی کی سیمینار سے پروفیسر خالد عراقی خطاب کر رہے ہیں



**Habib Rice Products Ltd.**

دوسری منزل، یو بی ایل بلڈنگ، آئی آئی چنور میگر روڈ، کراچی۔ ۴۰۰۰۰، فون: ۹۲۲۱۰۳۲۳۱۱۸۸۷، فیکس: ۹۲۲۱۰۳۲۳۱۵۸۱

**اطلاع غیر معمولی اجلاس عام**

بذریعہ پب اطلاع دی جاتی ہے کہ حبیب رائس پروڈکٹس لمیٹڈ کے شیئرز ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاس عام بروز پیر ۲۶ جون ۲۰۲۳ کو صبح ۱۱:۰۰ بجے دی انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرزڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (آئی سی اے پی) آڈیٹوریم ہال، D-31/8، چارٹرزڈ اکاؤنٹنٹس ایویجیو، گلشن، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا:

- 1- غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ ۵ جون ۲۰۲۳ کو ۲۰۲۲ کا رکارڈ انٹینٹی کی توثیق۔
  - 2- درج ذیل قراردادوں پر بلوٹرز خصوصی قراردادوں پر غور و خوض اور دست پانے کی صورت میں اس کی ترمیم یا ماتریم منظوری:
    - ا۔ ”قرارداد حبیب رائس پروڈکٹس لمیٹڈ (دی ”کمپنی“) کے ممبران کی منظوری لی جائے اور ذریعہ بتلائی جاتی ہے جس کے مطابق کمپنی کے اجازت شدہ شیئرز (دو ملین روپے صرف) منقسم ہر ایک/۵ روپے مالیت کے ۶۰،۰۰،۰۰۰،۰۰۰ شیئرز کو بھرا کر/۱،۰۰،۰۰،۰۰۰،۰۰۰ روپے (ایک ملین روپے صرف) منقسم ہر ایک/۵ روپے مالیت کے ۲۰،۰۰،۰۰،۰۰۰ شیئرز لایا جاتا ہے۔
    - بی۔ مزید قرارداد حبیب رائس پروڈکٹس لمیٹڈ کے ممبران نے مذکورہ اضافے کے نتیجے میں کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی متن ۱۷ اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکلز میں ترمیم کی جائے اور ذریعہ بہ اس میں ترمیم کی جاتی ہے اور اسے درج ذیل کے مطابق پڑھا جائے۔
- میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی متن ۷
- کمپنی کا اجازت شدہ شیئرز (دو ملین روپے صرف) ۱،۰۰،۰۰،۰۰۰،۰۰۰ روپے (ایک ملین روپے صرف) منقسم ہر ایک/۵ روپے (پانچ روپے صرف) مالیت کے ۲۰،۰۰،۰۰،۰۰۰ (دو ملین روپے صرف) عمومی شیئرز میں منقسم ہے جو کمپنی کی جانب سے وقتاً فوقتاً جاری ضوابط کے ذریعے فراہم کردہ حقوق، مراعات اور شرائط کے ساتھ ہیں۔ یعنی کسی بھی وقت ان حقوق، مراعات یا شرائط میں کوئی ترمیم تبدیلی یا ترمیم کر سکتی ہے جیسا کہ کمپنی ایکٹ ۲۰۱۷ کے ذریعے اجازت دی گئی ہے اور سراسر اس میں اضافہ، تبدیلی اور ایذا زہر نو منقسم اور شیئرز کو اکٹھا کر سکتی ہے۔
- آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی متن ۵
- کمپنی کا اجازت شدہ شیئرز (دو ملین روپے صرف) ۱،۰۰،۰۰،۰۰۰،۰۰۰ روپے (ایک ملین روپے صرف) منقسم ہر ایک/۵ روپے (پانچ روپے صرف) مالیت کے ۲۰،۰۰،۰۰،۰۰۰ (دو ملین روپے صرف) عمومی شیئرز میں منقسم ہے۔
- ی۔ مزید قرارداد حبیب رائس پروڈکٹس لمیٹڈ کے ممبران نے ۲۰۱۷ کی متن کو ساتھ مل کر پڑھیں کمپنی (مزید شیئرز کا اجراء) کیلئے ۲۰۲۰ کے وقت بروز کو کمپنی کے غیر منقسم کردہ ریزرو میں سے بونس شیئرز کے اجراء کا اختیار دیا جائے یہ بونس شیئرز زمران کو ۱۶ جون ۲۰۲۳ء کے مطابق کمپنی میں ان کے موجودہ شیئرز ہولڈنگ کے تناسب سے جاری کیے جائیں جیسا کہ بورڈ کی جانب سے تجویز/اسٹاف کی گئی ہے۔
  - ڈی۔ بونس شیئرز ایکٹ کی متن میں سے شرط کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور (مزید شیئرز کا اجراء) کیلئے ۲۰۲۰ کے شرطوں میں شامل ہے۔
  - ای۔ مزید قرارداد حبیب رائس پروڈکٹس لمیٹڈ کے ممبران نے ۲۰۱۷ کی متن کو ساتھ مل کر پڑھیں کمپنی (مزید شیئرز کا اجراء) کیلئے ۲۰۲۰ کے شرطوں میں شامل ہے۔
  - ایف۔ مزید قرارداد حبیب رائس پروڈکٹس لمیٹڈ کے ممبران نے ۲۰۱۷ کی متن کو ساتھ مل کر پڑھیں کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو اختیار دیا جائے اور پب ذریعہ پب اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کمپنی کی جانب سے تمام اقدامات، ڈیڈ لائنز، کارروائیاں، انفرادی/اجتماعی طور پر انجام دینے کیلئے مجاز ہیں اور وہ اس حوالے سے تمام قانونی کارروائیوں کو مکمل کرنے کیلئے تمام ضروری اقدامات بروئے کار لائیں اور تمام ضروری دستاویزات داخل کریں۔
- 3- صدر اجلاس کی اجازت سے اجلاس میں پیش کردہ کسی بھی دیگر امور کی انجام دہی۔
- کمپنی ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن (۳) ۱۳۲ کے تحت مذکورہ بالا خصوصی کارروائی سے متعلق ایک اسٹینٹ اس نوٹس کے ساتھ ممبران کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

حساب الیکٹرونک بورڈ  
اطلاعیہ فراہم جاتی  
کمپنی سیکرٹری



سیمینار کے بعد ڈاکٹر ز اور طلباء کا گروپ

ہلاک، 7 زخمیوں سمیت 10 گرفتار

یہ فائرنگ کے تبادلے میں ڈکیت صابر مارا گیا

چھیننے کے موہا بل، رقم اور موٹر سائیکلیں برآمد

سے سپر پائی سید مقابلے میں 5 ڈاکوؤں کو گرفتار کیا گیا تین کراچی پولیس کے مطابق ڈی ڈاکوؤں کی شناخت 21 سالہ ارسلان ولد حضرت سے کے مطابق 40 سالہ آصف ولد محمد اقبال کے نام سے کی گئی دیگر گرفتار ملزمان میں شانی، اصغر اور شہزاد ہیں گرفتار ملزمان سے 5 توپل چھیننے کے موہا بل فونز نقدی اور 3 موٹر سائیکلیں برآمد کی گئی ہیں، عزیز آباد پولیس نے عزیز آباد ہلاک 8 کراچی ایڈیٹی کے قریب سے سید مقابلے کے بعد 3 ڈاکوؤں کو گرفتار کیا۔

ریکارڈ ٹرنٹ اور سلیکشن سینٹر کے تحت آگے مہم

پاکستان نیوی کی لیفٹنٹ فائر نے پاکستان نیوی میں مختلف علوم کیلئے موجودہ فوٹو یوں کے طریقہ کار کے بارے میں آگاہی دی، (باقی صفحہ 5 نمبر 44)

لوٹ مار کی 70 سے زائد وارداتوں میں لوٹ 2 ملز گرفتار

کراچی (انسٹاٹو رپورٹرز) ریجنل سندھ اور پولیس نے ایشیائی مہم معلومات کی بنیاد پر اورنگی ناؤں 2 ملزمان ایمر ناؤ اور ایسٹ عرف راجہ کو گرفتار کے نتیجے میں غیر قانونی طور پر برآمد کیا گیا، ملزمان اورنگی ناؤں اور گردو نواح میں ڈکیتی اور چھینا چھینی کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں ملزمان گورکے ہاؤس ایسٹ اور ڈی پرائے جانے والے شہریوں سے گن پائٹ پر موہا بل فون اور نقدی چھین کر فرار ہو جاتے تھے۔

محکمہ تعلیم گریڈ چار کے ملازمین کی اسکوٹنی کمپنی کے ارکان سے ملاقات

کراچی (انسٹاٹو رپورٹرز) محکمہ تعلیم درجہ چہارم کے ملازمین کی ایسوسی ایشن نے ڈائریکٹر برائے تعلیم کے ملازمین کا ترقیاتی کے معاملات میں ملوث ہونے کی اطلاع دی۔

